

Dan

Chapter 7

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	בְּשֵׁנַת	חֹדֶה	לְבַלְשָׁצָר	מֶלֶךְ	בָּבֶל	דְּנִיאל	חֶלֶם	חֹדֶה	וַחֲזוֹי	רֵאשָׁה
	سال-میں	پہلے	بیلشضر-کے	بادشاہ	بابل-کے	دانی-ایل-نے	خواب	دیکھا	اور-رویائیں	اُس-کے-سر-کی
	H8140	H2298	H1113	H4430	H0895	H1841	H2493	H2370	H2376	H7217
	עַל-	מִשְׁכְּבָהּ	בַּאֲדִינִי	חֶלְמָא	כְּתָב	רֵאשׁ	מִלִּין	אָמַר:		
	پر	اُس-کے-بستر	پھر	خواب	لکھا	خلاصہ	باتوں-کا	بیان-کیا		
	H5922	H4903	H0116	H2493	H3790	H7217	H4406	H0560		

تھا۔ دیکھا میں خواب جو لیا کر بند قلم کچھ وہ نے اُس پر اُٹھنے جاگ دیکھی۔ رویا میں خواب نے دانیال میں سال پہلے کے حکومت کی شَصْر بیل بابل شاہ ہے، بیان کا اِس میں ذیل

2	עֲנָה	דְּנִיאל	וְאָמַר	חֹזֶה	תְּנִית	בְּחֻזִי	עִם-	לִילִיא	וְאָרֹ	אַרְבַּע	רִוּתִי
	بولا	دانی-ایل	اور-کہا	دیکھ-رہا	تھا-میں	اپنی-رویائیں	ساتھ	رات-کے	اور-دیکھو	چار	ہوائیں
	H6032	H1841	H0560	H2370	H1934	H2376	H5974	H3916	H0718	H0703	H7308
	שָׁמַיָא	רָבִיא	מְנִיחִין	לְיָמָא	רָבָא:						
	آسمان-کی	ٹکرا-ربی-تھیں	سمندر-پر	بڑے							
	H8065	H1519	H3221	H7229							

ہیں۔ ربی کر متلاطم کو سمندر بڑے سے زور ہوائیں چاروں کی آسمان کہ دیکھا میں رویا نے دانیال میں، وقت کے رات

3	וְאַרְבַּע	חִינוֹן	רַבְרָבִין	סֶלְקִין	מִן-	יָמָא	שְׁנִין	דָּא	מִן-	דָּא:
	اور-چار	جانور	بڑے	نکلے	سے	سمندر	مختلف	یہ	سے	اُس
	H0703	H2423	H7260	H5559	H4481	H3221	H8133	H1668	H4481	H1668

تھے۔ مختلف سے دوسرے ایک جو آئے نکل سے سمندر جانور بڑے چار پھر

4	קְדָמִיתָא	כְּאַרְיָה	וְנַפְיִין	דִּי-	נֶשֶׁר	לָהּ	חֹזֶה	תְּלִית	עַד	דִּי-	מְזִיטוֹ
	پہلا	شیر-کی-مانند	اور-پر	جو	عقاب-کے	اُس-کے	دیکھ-رہا	تھا-میں	یہاں-تک	کہ	نوچے-گئے
	H6933	H0744	H1611	H1768	H5403		H2370	H1934	H5705	H1768	H4804
	נְפִיָה	וְנִטְיִילָת	מִן-	אַרְעָא	וְעַל-	רַבְלִין	כְּאַנְשׁ	תְּקִימָת	וְלִבָּב	אַנְשׁ	יְהִיב
	اُس-کے-پر	اور-اُٹھایا-گیا	سے	زمین	اور-پر	پاؤں	انسان-کی-مانند	کھڑا-کیا-گیا	اور-دل	انسان-کا	دیا-گیا
	H1611	H5191	H4481	H0772	H5922	H7271	H0606	H6966	H3825	H0606	H3052

لָהּ:
اُسے

بیروں دو پچھلے طرح کی انسان کر اُٹھا اُسے اور گیا لیا نوچ کو پروں کے اُس ہی دیکھتے میرے تھے۔ پر کے عقاب کے اُس لیکن تھا، جیسا شیربیر جانور پہلا گیا۔ مل بھی دل کا انسان اُسے گیا۔ کیا کھڑا پر

وَأَرُو	חַיּוֹה	אֶחָרִי	תַּנְיָנָה	דְּמִיָּה	לְדָב	וְלִשְׁטָר-	חַד	הַקִּמָּת	וּתְלָת	עֲלֵעִין
اور-دیکھو	جانور	دوسرا	دوسرا	مشابہ	ریچھ-سے	اور-ایک-طرف	ایک	اٹھایا-گیا	اور-تین	پسلیاں
H0718	H2423	H0317	H8578	H1821	H1678	H7859	H2298	H6966	H8532	H5967

بִּפְנֵיה	בֵּין	[שְׁנֵיה]	(שְׁנֵיה)	וְכֹן	אֶמְרִין	לָה	קוֹמִי	אֶחָלִי	בֶּשֶׂר
اُس-کے-منہ-میں	بیچ	اُس-کے-دانتوں	اُس-کے-دانتوں-کے	اور-یوں	کہا	اُس-سے	اُٹھ	کھا	گوشت
H6433	H0997	H8128	H8128	H3652	H0560	H6966	H0399	H1321	

שָׂמִיא:

بہت
[H7690](#)

گوشت کر بھر جی [] اُٹھ، گیا، بتایا اُسے تھا۔ بوئے پکڑے پسلیاں تین میں دانتوں اپنے وہ اور تھا، گیا کیا کھڑا پہلو ایک کا اُس تھا۔ جیسا ریچھ جانور دوسرا کھالے! []

כָּאֲתָר	דְּרָה	חֲזָה	הַזֵּית	וְאָרו	אֶחָרִי	כְּנֹמֵר	וְלָה	נִפְיִן	אֶרְבַּע	דִּי-
اُس-کے-بعد	اِس	دیکھ-ربا	تھا-میں	اور-دیکھو	ایک-اور	چیتے-کی-مانند	اور-اُس-کے	پر	چار	جو
H0870	H1836	H2370	H1934	H0718	H0317	H5245	H1611	H0703	H1768	

עוֹרָ	עַל-	[גְּבִיּה]	(גְּבִיּה)	וְאֶרְבַּעָה	רֵאשִׁין	לְחַיּוֹתָא	וְשִׁלְטָן	יְהִיב	לָה:
پرندے-کے	پر	اُس-کی-پیٹھ	اُس-کی-پیٹھ-پر	اور-چار	سر	جانور-کے	اور-حکومت	دی-گئی	اُسے
H5776	H5922	H1355	H1355	H0703	H7217	H2423	H7985	H3052	

گیا۔ دیا اختیار کا کرنے حکومت اُسے تھے۔ سر چار کے اُس لیکن تھا، جیسا چیتے وہ دیکھا۔ کو جانور تیسرے نے میں بھر

כָּאֲתָר	דְּרָה	חֲזָה	הַזֵּית	בְּחֻזִי	לַיְלָא	וְאָרו	חַיּוֹה	[רְבִיעִיָה]	(رְבִיעִיָה)
اُس-کے-بعد	اِس	دیکھ-ربا	تھا-میں	رویائوں-میں	رات-کی	اور-دیکھو	جانور	چوتھا	چوتھا
H0870	H1836	H2370	H1934	H2376	H3916	H0718	H2423	H7244	H7244

דְּחִילָה	וְאִימָתָי	וְתַקִּיפָא	יְהִירָא	וְשִׁינִין	דִּי-	פְּרִיל	לָה	רְבָרְבִין	אֶחָלָה
بولناک	اور-خوفناک	اور-بہت-طاقفور	انتہائی	اور-دانت	جو	لوہے-کے	اُس-کے	بڑے	کھاتا-تھا
H1763	H0574	H8624	H3493	H8128	H1768	H6523	H7260	H0399	

וּמְדִקָּה	וְשִׁאָרָא	[בְּרַגְלִיָה]	(بְּרַגְלִיָה)	רְפִסָה	וְהִיא	מְשֻׁנָּה	מִן-	כָּל-	חַיּוֹתָא
اور-ٹکڑے-کرتا-تھا	اور-باقی-کو	اپنے-پاؤں	اپنے-پاؤں-سے	روندا-تھا	اور-وہ	مختلف-تھا	سے	تمام	جانوروں
H1855	H7606	H7271	H7271	H7512	H1932	H8133	H4481	H3606	H2423

דִּי	קְדָמִיָּה	וְקִרְבִּין	עֶשֶׂר	לָה:
جو	اُس-سے-پہلے-تھے	اور-سینگ	دس	اُس-کے
H1768	H6925	H7162	H6236	

کچھ سب وہ سے دانتوں بڑے بڑے کے لوہے اپنے تھا۔ ور طاقت ہی نہایت اور ناک بول ڈراؤنا، جو آیا نظر جانور چوتھا ایک میں رویا کی رات بعد کے اِس تھے۔ سینگ دس کے اُس تھا۔ مختلف سے جانوروں دیگر جانور یہ تھا۔ دیتا روند تلے پاؤں وہ اُسے جاتا بچ کچھ جو تھا۔ کرتا چور چور اور کھاتا

מְשֻׁתָּכָל	הַזֵּית	בְּקִרְנָא	וְאֵלֹ	קָרִין	אֶחָרִי	זַעִירָה	סִלְקָת	[בִּינִיחוֹן]	(בִּינִיחוֹן)
غور-سے-دیکھ-ربا	تھا-میں	سینگوں-کو	اور-دیکھو	سینگ	ایک-اور	چھوٹا	نکلا	اُن-کے-درمیان	اُن-کے-بیچ
H7920	H1934	H7162	H0431	H7162	H0317	H2192	H5559	H0997	H0997

וּתְלָת	מִן-	קִרְנָא	קְדָמִיָּה	[אֲתַעֲקֵרִין]	(אֲתַעֲקֵרָה)	מִן-	[קְדָמִיָּה]	(קְדָמִיָּה)	וְאֵלֹ
اور-تین	سے	سینگ	پہلے	اکھاڑے-گئے	اکھاڑے-گئے	سے	اُس-کے-سامنے	اُس-کے-سامنے	اور-دیکھو
H8532	H4481	H7162	H6933	H6132	H6132	H4481	H6925	H6925	H0431

עֵינִין	כְּעִינִי	אֲנָשָׁא	בְּקִרְנָא	דָּא	וּפִם	מִזְמָלָל	רְבָרְבִין:
آنکھیں	آنکھوں-کی-مانند	انسان-کی	سینگ-میں	اِس	اور-منہ	بولتا-تھا	بڑی-بڑی-باتیں
H5870	H5870	H0606	H7162	H1668	H6433	H4449	H7260

مل جگہ اُسے تاکہ گیا لیا نوچ کو تین سے میں سینگوں دس پہلے آیا۔ نکل سے درمیان کے اُن سینگ سا چھوٹا اور ایک کہ تھا ربا کر ہی غور پر سینگوں میں تھا۔ کرتا باتیں بڑی بڑی منہ کا اُس اور تھیں، آنکھیں انسانی پر سینگ چھوٹے جائے۔

חַזָּה	חַזָּה	עַד	דִּי	כְּרִסְוֹן	רְמִיז	וְעֵתִיק	יּוֹמִין	יִתֵּב	אֲלֻבוּשָׁה	כְּתוּלָה
دیکھ-ربا	تھا-میں	یہاں-تک	کہ	تخت	رکھے-گئے	اور-قدیم	ایام	بیٹھا	اُس-کا-لباس	برف-کی-مانند
H2370	H1934	H5705	H1768	H3764	H7412	H6268	H3118	H3488	H3831	H8517
חֲזָר	וְשִׁעָר	רֵאשָׁה	כְּעֵמֶר	נֶקְמָה	כְּרִסְיָה	שְׂבִיבִין	דִּי	זָוָר	נִלְגָלוּהִי	נִדָּר
سفید	اور-بال	اُس-کے-سر-کے	اُون-کی-مانند	پاک	اُس-کا-تخت	شعلے	جو	اُگ-کے	اُس-کے-ہیے	اُگ
H2358	H8177	H7217	H6015	H5343	H3764	H7631	H1768	H5135	H1535	H5135

דִּלְק:

بھڑکتی
[H1815](#)

وہ پر تخت جس تھے۔ مانند کی اُون خالص بال کے اُس اور سفید جیسا برف لباس کا اُس گیا۔ بیٹھ الایام قدیم اور گئے لگائے تخت کہ تھا ربا ہی دیکھ مَیں تھے۔ لگے ہیئے زن شعلہ پر اُس اور تھا، ربا بھڑک طرح کی اُگ وہ تھا بیٹھا

נֶהָר	דִּי	זָוָר	נֶהָר	וְנִפְקָ	מִן	כְּדָמוּהִי	אֵלָה	אֲלָפִים	אֲלָפִין
دریا	جو	اُگ-کا	بہتا	اور-نکلتا-تھا	سے	اُس-کے-سامنے	بزار	بزاروں	بزاروں
H5103	H1768	H5135	H5047	H5312	H4481	H6925	H0506	H0506	H0506
יְשֻׁמוּשָׁה	וְרָבוּ	אֲרָבוֹן	וְרָבוּ	אֲרָבוֹן	אֲרָבוֹן	אֲרָבוֹן	דִּינָא	יִתֵּב	וְסַפְרִין
خدمت-کرتے-تھے-اُس-کی	اور-لاکھوں	لاکھوں	لاکھوں	لاکھوں	اُس-کے-سامنے	کھڑے-ہوئے	عدالت	بیٹھی	اور-کتابیں
H8120	H7240	H7240	H7240	H7240	H6925	H6966	H1780	H3488	H5609

פְּתִיחוֹ:

کھولی-گئیں
[H6606](#)

گئیں۔ کھولی کتابیں اور گئے، بیٹھ لئے کے عدالت لوگ تھیں۔ کھڑی لئے کے خدمت کی اُس بستیاں بے شمار تھی۔ رہی نکل کر بہ نہر کی اُگ سے سامنے کے اُس

חַזָּה	חַזָּה	בְּאֲרִין	מִן	קָל	מְלִיאָה	רַבְרַבְתָּא	דִּי	קָרְנָא	מְמַלְכָּה	חַזָּה
دیکھ-ربا	تھا-میں	پھر	سے	آواز	باتوں-کی	بڑی-بڑی	جو	سینگ	بول-ربا-تھا	دیکھ-ربا
H2370	H1934	H0116	H4481	H7032	H4406	H7260	H1768	H7162	H4449	H2370
חַזָּה	עַד	דִּי	קְטִילָת	חַיּוֹתָא	וְהוּבַד	נִשְׁמָה	וְיַהֲבַת	לִיקְרַת	אֲשָׁא:	
تھا-میں	یہاں-تک	کہ	مارا-گیا	جانور	اور-نابود-ہوا	اُس-کا-جسم	اور-دیا-گیا	جلانے-کے-لیے	اُگ-میں	
H1934	H5705	H1768	H6992	H2423	H0007	H1655	H3052	H3346	H0785	

پھینکا میں اُگ بھڑکتی اور ہوا تباہ جسم کا اُس گیا۔ کیا قتل کو جانور چوتھے تو ربا دیکھتا مَیں ہے۔ ربا کر باتیں بڑی بڑی سینگ چھوٹا کہ کیا غور نے مَیں گیا۔

וְשִׁאֲרָ	חַיּוֹתָא	הָעֵדִיו	שְׁלִטְנָהוֹן	וְאֲרַכָּה	בְּחִין	יְהִיבַת	לְהוֹן	עַד	זְמַן
اور-باقی	جانوروں-کی	لے-لی-گئی	اُن-کی-حکومت	اور-مدت	زندگی-کی	دی-گئی	انہیں	تک	وقت
H7606	H2423	H5709	H7985	H0754	H2417	H3052	H5705	H2166	

וְעָדִין:

اور-مقررہ
[H5732](#)

گئی۔ دی اجازت کی رہنے زندہ لئے کے دیر کچھ انہیں لیکن گئی، لی چھین سے اُن حکومت کی جانوروں تین دیگر

חַזָּה	חַזָּה	בְּחִין	גְּלִילָא	וְאֲרָו	עַם	עַנְנִין	שְׁמַיָּא	כְּבָר	אֲנָשׁ	אֲתָה	חַזָּה
دیکھ-ربا	تھا-میں	رویائوں-میں	رات-کی	اور-دیکھو	ساتھ	بادلوں	آسمان-کے	مانند	انسان-کے	آر-ربا	تھا
H2370	H1934	H2376	H3916	H0718	H5974	H6050	H8065	H1247	H0606	H0858	H1934
וְעַד	עֵתִיק	יּוֹמִיא	מְטָה	וּקְדָמוּהִי	תְּקַרְבוּהִי:						
اور-تک	قدیم	ایام	پہنچا	اور-اُس-کے-سامنے	لایا-گیا						
H5705	H6268	H3118	H4291	H6925	H7127						

اُس تو پہنچا قریب کے الایام قدیم جب ہے۔ ربا لگ سا آدم ابن جو ہے ربا آ کوئی ساتھ ساتھ کے بادلوں کے آسمان کہ دیکھا بھی یہ نے مَیں میں رویا کی رات گیا۔ لایا حضور کے

14 וְלֹא יְהִיב שְׁלֹטֹן וַיִּקַּר וּמַלְכוֹ וּכְלָ עֲמֻמָּא אֲמַיָּא וְלִשְׁנָיָא לָהּ יִפְלְחוּן
اور-اُسے دی-گئی حکومت اور-عزت اور-سلطنت اور-تمام قوموں اُمتوں اور-زبانوں-نے اُس-کی خدمت-کی

سَلְטָנָה سְלֹטֹן עֲלָם דִּי- לָא יַעֲרִיחַ וּמַלְכוּתָהּ דִּי- לָא תִתְחַבֵּל: פ
اُس-کی-حکومت حکومت ابدی جو نہ لے-گی اور-اُس-کی-سلطنت جو نہ ٹوٹے-گی

گی۔ ہو نہیں ختم کبھی اور بے ابدی حکومت کی اُس کی۔ پرستش کی اُس نے افراد کے زبان اور اُمت قوم، پر اور گئی، دی بادشاہی اور عزت سلطنت، اُسے
گی۔ ہو نہیں تباہ کبھی بادشاہی کی اُس

15 אֲתִכְרִית רֹחִי אֲנָה דְנִיאל דְנִיאל בְּנוֹא נְדָנָה וְחֻזִּי רֵאשִׁי יְבַחֲלֵנִי:
پریشان-ہوئی روح-میری میں دانی-ایل اندر اور-رویائیں میرے-سر-کی گھبرا-دیتی-تھیں-مجھے

تھی۔ گئی چھا دہشت پر مجھ سے رویا کیونکہ ہوا، پریشان سخت دانیال میں،

16 קְרִיבָת עֲלָ- חַד מִן- קְאֻמָּא וַיִּצְיָבָא אֲבַעָא- מְנָה עֲלָ- כָל- דְנָה
قریب-گیا-میں پاس ایک-کے سے کھڑے-ہوئوں اور-سجائی پوچھنا-چاہا اُس-سے بارے-میں سب اِس

וְאֶמְרָ- לָי וּפְשָׁר מְלִיא יְהוֹדְעֵנִי:
اور-کہا مجھ-سے اور-تعبیر باتوں-کی بتائی-مجھے

بتایا،مطلب کا اِن مجھے نے اُس بتائے۔ مطلب کا باتوں تمام اِن مجھے وہ کہ کی گزارش سے اُس کر جا پاس کے کسی کھڑے وہاں نے مَیں لئے اِس

17 אֲלִין חִיּוּתָא רַבְרַבְתָּא דִּי אֲנִין אַרְבַּע אַרְבַּעָה מַלְכִין יְקוּמוּן מִן- אַרְעָא:
یہ جانور بڑے جو وہ چار چار بادشاہ اُنھیں-گے سے زمین

گی۔ جائیں ہو قائم کر نکل سے زمین جو ہیں سلطنتیں چار جانور بڑے

18 וַיִּקְבְּלוּן מַלְכוּתָא קְדִישִׁי עֲלֵיוֹנִין וַיְחַסְנוּן מַלְכוּתָא עֲדָ- עֲלָמָא וְעַד
اور-حاصل-کریں-گے سلطنت مقدسین حق-تعالیٰ-کے اور-قبضہ-رکھیں-گے سلطنت-پر تا ابد اور-تا

עֲלָם עֲלָמָא:
ابد الابدین

گی۔ اِسے حاصل تک ابد جو بادشاہی وہ گی، ملے بادشاہی حقیقی کو مُقدّسین کے تعالیٰ اللہ لیکن

19 אֲדִין צְבִית לְיִצְחָא עֲלָ- חִיּוּתָא רַבִּיעֻתָא דִּי- הָנֹת שְׁנָיָה מִן- [כְּלֵחוּן]
پھر میں-نے-چاہا تحقیق-کرنا بارے-میں جانور چوتھے-کے جو تھا مختلف سے سب

(כְּלֵחוּן) דְחִילָה וַתִּירָה [שְׁנִיָּה] (שְׁנָה) דִּי- פִרְזָל וְטַפְרִיָּה דִּי- נַחֲשׁ
سب-سے بولناک انتہائی اُس-کے-دانت اُس-کے-دانت جو لوہے-کے اور-اُس-کے-پنجے جو بیتل-کے

אֲכָלָה מִדְּבָרָה וְשִׁאָרָא בְּרִגְלִיָּה רַפְסָה:
کھاتا-تھا ٹکڑے-کرتا-تھا اور-باقی-کو اپنے-پاؤں-سے روندتا-تھا

دانت کے اُس کیونکہ تھا۔ ناک بول اِتنا اور مختلف اِتنا سے جانوروں دیگر جو میں بارے کے جانور اُس تھا، چاہتا جاننا مزید میں بارے کے جانور چوتھے میں
تھا۔ دیتا روند تلے پاؤں وہ اُسے جاتا بچ جو تھا۔ کرتا چُور چُور اور کھاتا کچھ سب وہ اور تھے، کے بیتل پنجے اور لوہے

اور-بارے-میں	کرنیا	عشر	دی	برائشہ	واقری	دی	سلکت	انفلو	ونفلاہ)
سینگوں	دس	جو	اُس-کے-سر-پر	اور-دوسرے-نے	جو	نکلا	اور-گرے	اور-گرے	اور-گرے
H5922	H7162	H6236	H1768	H7217	H0317	H1768	H5559	H5308	H5308

مؤ-	اقدامیاہ	(کدماہ)	تلت	وکرنا	دکن	وعینو	لاہ	نفس	مملل
سے	اُس-کے-سامنے	اُس-کے-سامنے	تین	اور-سینگ	وبی	اور-آنکھیں	اُس-کی	اور-منہ	بولتا-تھا
H4481	H6925	H6925	H8532	H7162	H1797	H5870	H6433	H4449	H4449

ربربون	وونوا	رب	مؤ-	حبرتاہ:
بڑی-بڑی-باتیں	اور-اُس-کی-شکل	بڑی	سے	اُس-کے-ساتھیوں
H7260	H2376	H7229	H4481	H2273

دس پر نکلنے کے سینگ چھوٹے کیونکہ تھا۔ چابتا جاننا مزید بھی میں بارے کے سینگ چھوٹے ہوئے نکلے سے میں اُن اور سینگوں دس کے سر کے اُس میں باتیں بڑی بڑی منہ کا اُس اور تھیں، آنکھیں کی اُس آیا۔ نظر بڑا کہیں سے سینگوں والے ساتھ کر بڑھ سینگ یہ اور گئے، گر کر نکل تین سے میں سینگوں تھا۔ کرتا

21	تونا	توت	وکرنا	دکن	عبرہ	قرب	عم	کدیشو	وکرنا	لہون:
	دیکھ-رہا	تھا-میں	اور-سینگ	وہ	کر-رہا-تھا	جنگ	ساتھ	مقدسین-کے	اور-غالب-آ-رہا-تھا	اُن-پر
	H2370	H1934	H7162	H1797	H5648	H7129	H5974	H6922	H3202	

دی۔ شکست اُنہیں کے کر جنگ سے مقدسین نے سینگ چھوٹے کہ دیکھا نے میں رویا

22	عرد	دی-	اٹہا	عونیک	یومیا	وڈنا	یہب	لکدیشو	علیونو	وونما	مٹہا
	یہاں-تک	کہ	آیا	قدیم	ایام	اور-عدالت	دی	مقدسین-کو	حق-تعالیٰ-کے	اور-وقت	آ-پہنچا
	H5705	H1768	H0858	H6268	H3118	H1780	H3052	H6922	H5946	H2166	H4291

وملکوتہا	تھسنو	کدیشو:
اور-سلطنت	حاصل-کی	مقدسین-نے
H4437	H2631	H6922

ہوئی۔ حاصل بادشاہی کو مقدسین جب آیا وقت وہ پھر کیا۔ قائم انصاف لئے کے مقدسین کے تعالیٰ اللہ اور پہنچا آ الایام قدیم پھر لیکن

23	کن	امرا	خوتہا	ربیعہا	ملکو	اربعیاہ	(ربیعہا)	تہنا	بارتہا	دی
	یوں	کہا	جانور	چوتھا	سلطنت	چوتھی	چوتھی	بو-گی	زمین-پر	جو
	H3652	H0560	H2423	H7244	H4437	H7244	H7244	H1934	H0772	H1768

تشنہا	مؤ-	کل-	ملکوتہا	وتاکل	کل-	ارتہا	وتدوشنا
مختلف-بو-گی	سے	تمام	سلطنتوں	اور-کھائے-گی	تمام	زمین-کو	اور-روندے-گی-اُسے
H8133	H4481	H3606	H4437	H0399	H3606	H0772	H1759

وتدکناہ:

اور-ٹکڑے-کرے-گی-اُسے
[H1855](#)

بو مختلف سے بادشاہیوں تمام دیگر جو بے بادشاہی چوتھی ایک پر زمین مراد سے جانور چوتھے کہا، نے اُس تھا پوچھا مطلب کا رویا نے میں سے جس گی۔ دے کر چور چور کر روند اُسے گی، جائے کہا کو دنیا تمام وہ گی۔

24	وکرنا	عشر	مونا	ملکوتہا	عشرہ	ملکون	یومون	واقرن	یومون	اقریہون
	اور-سینگ	دس	اُس-سے	سلطنت-میں-سے	دس	بادشاہ	اُنہیں-کے	اور-ایک-اور	اُنہے-گا	اُن-کے-بعد
	H7162	H6236	H4481	H4437	H6236	H4430	H6966	H0321	H6966	H0311

وہوا	یشنا	مؤ-	کدماہ	وتلتہا	ملکون	یہشفا:
اور-وہ	مختلف-بو-گا	سے	پہلوں	اور-تین	بادشاہوں-کو	گرا-دے-گا
H1932	H8133	H4481	H6933	H8532	H4430	H8214

تین اور گا بو مختلف سے بادشاہوں گزرے جو گا اُنے بادشاہ اور ایک بعد کے اُن گے۔ اُنیں نکل سے بادشاہی اِس جو ہیں بادشاہ دس مراد سے سینگوں دس گا۔ دے ملا میں خاک کو بادشاہوں

25	וּמְלִיזָן	לְיָד	[עֲלִיא]]	(עֲלֵאָה))	יְמִלָּל	וְלִקְדִישִׁי	עֲלִיזָן	יְבִלָּא	וְיִסְבֵּר
	اور-باتیں	خلاف	حق-تعالیٰ	حق-تعالیٰ-کے	بولے-گا	اور-مقدسین-کو	حق-تعالیٰ-کے	سنائے-گا	اور-ارادہ-کرے-گا
	H4406	H6655	H5943	H5943	H4449	H6922	H5946	H1080	H5452

لְהַשְׁנִיָּה	זְמַנּוֹן	וְדָת	וְיִתְהַבְּנוּ	בִּיָּה	עַד-	עֲדָן	וְעֲדָנוֹן	וּפְלָג
بدلنے-کا	وقتوں	اور-شریعت	اور-دیے-جائیں-گے	اُس-کے-ہاتھ-میں	تک	ایک-وقت	اور-دو-وقت	اور-آدھے
H8133	H2166	H1882	H3052	H3028	H5705	H5732	H5732	H6387

عَدָן:
وقت
[H5732](#)

کی کرنے تبدیل کو شریعت اور اوقات مقررہ کے عیدوں وہ کہ تک یہاں گے، ربیس پستے تحت کے اُس مُقدّسین اور گا، بکے کفر خلاف کے تعالیٰ اللہ وہ گا۔ جائے کیا حوالے کے اُس لے کے عرصے آدھے اور عرصوں دو عرصے، ایک کو مُقدّسین گا۔ کرے کوشش

26	וְדִינָא	יְתָב	וְשִׁלְטָנָה	יְהַעֲדוּן	לְהַשְׁמֵרָה	וְלְהוֹבִדָּה	עַד-	סוּפָא:
	اور-عدالت	بیٹھے-گی	اور-اُس-کی-حکومت	لے-لیں-گے	مٹانے-کے-لیے	اور-نابود-کرنے-کے-لیے	تا	آخر
	H1780	H3488	H7985	H5709	H8046	H0007	H5705	H5491

گی۔ جائے ہو طور مکمل وہ اور گی، جائے لی چھین سے اُس حکومت کی اُس گے۔ جائیں بیٹھ لے کے عدالت کی اُس لوگ بھر لیکن

27	וּמְלִכּוּתָהּ	וְשִׁלְטָנָא	וּרְבוּתָא	דִּי	מְלָכוֹת	תְּחוֹת	כָּל-	שְׁמַיָּא	יְהִיבָת	לְעָם
	اور-سلطنت	اور-حکومت	اور-عظمت	جو	سلطنتوں-کی	نیچے	تمام	آسمان-کے	دی-جائے-گی	قوم-کو
	H4437	H7985	H7238	H1768	H4437	H8460	H3606	H8065	H3052	H5972

קְדִישִׁי	עֲלִיזָן	מְלִכּוּתָהּ	מְלָכוֹת	עָלָם	וְכָל	שְׁלִטְנָא	לָהּ	וּפְלָחוֹן
مقدسین	حق-تعالیٰ-کے	اُس-کی-سلطنت	سلطنت	ابدی	اور-تمام	حکومتوں-نے	اُس-کی	خدمت-کی
H6922	H5946	H4437	H4437	H5957	H3606	H7985	H6399	

וְיִשְׁתַּמְעוּן:
اور-فرمانبرداری-کی
[H8086](#)

بو ابدی بادشاہی کی تعالیٰ اللہ گی۔ جائے دی کر حوالے کے قوم مُقدّس کی تعالیٰ اللہ عظمت اور سلطنت بادشاہت، کی سلطنتوں تمام کی تلے آسمان تب گے۔ ربیس تابع کے اُس کے کر خدمت کی اُس حکمران تمام اور گی،

28	עַד-	כָּה	סוּפָא	דִּי-	מְלָתָא	אַנְה	דָּנִיָּאל	אֲשֵׁיָא	רְעִיזָן	יְבַהֲלָנִי
	تک	یہاں	خاتمہ	جو	بات-کا	میں	دانی-ایل	بہت	میرے-خیالات	گھبرا-دیتے-تھے-مجھے
	H5705	H3542	H5491	H1768	H4406		H1841	H7690	H7476	H0927

וְזִינִי	יִשְׁתַּנּוֹן	עָלִי	וּמְלָתָא	בְּלָבִי	נְטָרַת:	פ
اور-میرا-رنگ	بدل-گیا	میرا	اور-بات	اپنے-دل-میں	محفوظ-رکھی	□
H2122	H8133	H5922	H4406	H3821	H5202	

رکھا۔ محفوظ میں دل اپنے معاملہ نے میں لیکن گیا، پڑ ماند چہرہ میرا اور بوا، پریشان بہت سے باتوں ان دانیال میں، گیا۔ بتایا نہیں کچھ مزید مجھے